

نَبْلُ الْمَرْأَةِ

الْقَبْرُ

(٥٢)



# القمر

نام | پہلی ہی آیت کے فقرہ وَالْقَمَرُ سے مانخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ جس میں لفظ القمر آیا ہے۔

زمانہ نزول | اس میں شق القمر کے دافعہ کا ذکر آیا ہے جس سے اس کا زمانہ نزول منعین ہو جاتا ہے۔ محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دافعہ بھرت سے تقریباً پانچ سال پہلے مکہ مکہمہ میں مہنی کے مقام پر پیش آیا تھا۔

موضوع اور مضمون | اس میں کفار مکہ کو اس بہت دصری پر متذمہ کیا گیا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں اختیار کر کی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، فی الواقع برپا ہو سکتی ہے، اور اس کی آمد کا وقت قریب آنگا ہے۔ چنانچہ جیسا عظیم الشان کڑہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا۔ اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پھاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا۔ پھر آن کی آجی میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی وابدی اور غیر قائم نہیں ہے۔ وہ درہم برہم جو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور ستیارے پھٹ سکتے ہیں۔ پھر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ٹکڑا سکتے ہیں۔ اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہوئے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تنبیہت سے لوگوں کو اس دافعہ کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور کوہ رہو۔ مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ فرار دیا اور اپنے انکار پر مجھے رہے۔ اسی بہت دصری پر اس سورہ میں اُنہیں ملامت کی گئی ہے۔

کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اُسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر بہادر و محشر کی طرف دوڑے چارہ ہے ہوں گے۔

اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، هاد، ثمود، قوم لوط اور آن فرعون کا حال مختصر الفاظ میں سیان کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹکا کریہ تو میں کس حدائق عذاب سے دو چار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا فحصہ بیان کرنے کے بعد بارہ باریہ بات دُہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے جس سے اگر کوئی قوم سبقتے کر راہ راست پر آجائے تو ان عذابوں کی نزد نہیں آسکتی جو ران قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر یہ کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعہ سے نصیحت فوج کرنے کے بجائے کوئی اسی پر اصرار کرے کہ عذاب دیکھیے بغیر نہ مانے گا۔

اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے جائز ناک مثالیں دینے کے بعد کفارہ مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرزِ عمل پر دوسری قومیں سزا پاچکی ہیں وہی طرزِ عمل اگر تم اختیار کرو تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سُر خاپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے؟ یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آگیا ہے کہ جس بحروم پر دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کر دے گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا؟ اور اگر تم اپنی جمیعت پر بچوں پر ہوئے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمیعت شکست کھا کر بھاگنی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہو گا۔

آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی نیاری کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا بیس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برباہو چائے گی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اُسی وقت پر وہ ہو گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیب کوئی پھلنگ کرے اُس کو قابل کرنے کے لیے تیامت لاکھڑی کی جائے۔ اُس کو اکتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کر دے گے تو اپنی شامیت اعمال کا نتیجہ مجھکتو گے۔ تمہارا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہو رہا ہے جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ثابت ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔

# سُورَةُ الْقَمَرِ مَكَّيَّةٌ وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ

آیاتٗ ۱۴۵-۱۵۰

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقْقَةُ الْقَمَرُ ① وَإِنْ يَرُوا أَيَّتِهِ**

قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں

لے۔ یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی، جس کے آئندے کم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے، قریب آگئی ہے اور نظامِ عالم کے درہم پر ہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم کڑہ شق ہو کر دو ٹکڑے سے بیٹھا گیا، اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا نام سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برباد ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور ستاروں کے مدار بھی بدلتے ہیں اور افلک کا بھی سارا نظام درہم پر ہم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز انسانی وابدی اور داہم مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔

بعض لوگوں نے اس فقرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا۔ لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پلا فقرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اس کلام کے نزدیک کے وقت پھٹا نہیں تھا، بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے تو اس کی بنابری کہنا بالکل ہمیل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آگئی ہے۔ آخر مستقبل میں پیش آئے والا کوئی واقعہ اس کے قریب کی علامت کیسے قرار پاسکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو۔ دوسرے، یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی متناسب نہیں رکھتی۔ کہ گے کی عبارت صاف تباری ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی صریح علامت تھی مگر انہوں نے اسے جاؤ کا کر شہر قرار دے کر جھٹکا دیا اور اپنے اس خیال پر بجھے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں **إِنْشَقَ الْقَمَرُ** کے الفاظ اُسی صورت میں تھیک پڑھ سکتے ہیں جبکہ ان کا مطلب "چاند پھٹ گیا" ہو۔ "پھٹ جائے گا" کے معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بعد کی ساری باتیں بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فقرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے:

"قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اُمنہ موڑ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہر تو چلتا ہوا جاؤ دے ہے۔ انہوں نے جھٹکا دیا اور اپنی خواہ شا

## نفس کی پیروی کی۔

پس حقیقت یہ ہے کہ شق المقر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اُس کا انعامہ نہیں ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، البُرْعَوَانَه، الجُودَ وَ دُطِيَا السَّمِيَّ، عبد الرزاق، ابن حجر، یعنی، طبرانی، ابن مردؤیہ اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت مندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت مُحَمَّد لیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں میں میں سے تین بزرگ، یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت مُحَمَّد لیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ اور دوسرے بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، لیکن نکہ بیان میں سے ایک (یعنی عبد اللہ بن عباس) کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے (یعنی انس بن مالک) اُس وقت پہلے ہے لیکن پھر نکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سُن کر ہی اسے روایت کیا ہو گا جو اس واقعہ کا براہ راست علم رکھتے تھے۔

تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سفرت سے تقریباً ۱۰ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری ہینے کی چند صوریں شب تھی۔ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یک ایک دو چھٹا اور اس کا ایک مکملہ سے باہم کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا مکملہ اور دوسری طرف نظر آتا۔ یہ کیفیت ہیں ایک ہی لمحہ رہی اور پھر دونوں مکملہ سے باہم جوڑ گئے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت ہی میں تشریف فرماتھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا وہ یک حادثہ کو اہر ہو۔ کفار نے کما محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جاؤ کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو۔ ان سے پچھیوں یوں کہ محمد ہم پر جاؤ کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو۔ ان سے پچھیوں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی متظہر دیکھ دی چکے ہیں۔

بعض روایات جو حضرت انس سے مردی ہیں ان کی بنابریہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق المقر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا۔ لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے خود حضرت انس کی بھی بعض روایات میں مرتبین (دو مرتبہ) کے الفاظ میں اور بعض میں فرقوتین اور شفقتین (دو مکملہ) کے الفاظ۔ تیسرا یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشعاق کا ذکر کرتا ہے۔ اس بنابریہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصہ جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو مکملہ ہو گیا اور یہ کہ چاند کا ایک مکملہ حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی ہے اصل میں۔

بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک مجرمہ تھا جو کفار مکہ کے مطابق

پرسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اُس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کریے امکانِ قیامت اور قریب قیامت کی ایک نشانی ہے، علماء اسلام کا ایک بڑا گردہ اسے حفظ کے مجرمات میں شمار کرتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ صحیحہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس راستے کا مدار صرف بعض اُن روایات پر ہے جو حضرت انس سے مردی ہیں۔ اُن کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے فتح ایسا میں این مجرم کرتے ہیں کہ ”یہ قعده جتنے طریقوں سے منقول ہو اے انس“ کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القر کا واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر ہوا تھا۔ رباب انشقاق القر۔ ایک روایت ابو شعیم اصفهانی نے دلائل النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ یہ میں حضرت انس اور حضرت عبد اللہ بن عباس، دونوں اس واقعہ کے ہم عصر نہیں ہیں۔ بخلاف اس کے جو صحابہ اُس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت ملیح، حضرت عبد اللہ بن عمر ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القر کا یہ صحیحہ اُن کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعہ کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قریب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حفظ کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی یعنی، یہ واقعہ اُن کی تصدیق کر رہا تھا۔

محضیں اس پر دو طرح کے اختراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کڑے کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشور ہو جاتا ہے نارنجیوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن درحقیقت یہ دونوں اختراضات بے دلان ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دنور میں ستاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش نشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے دو تک چلے جائیں، اور پھر اپنے مرکز کی مقناییسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمیزی سر ہادوسرا اختراض تو وہ اس لیے ہے کہ وزن بے کہ یہ واقعہ اچانک بس رائیک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطفت ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اُس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر اسماں کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پُروری ہوئے زمین پر اُسے دیکھا

يَعِرِضُوا وَيَقُولُوا سَحْرٌ مُسْتَهْرٌ ۝ وَكَذَبُوا وَأَتَبْعَوَا أَهْوَاءَ هُنَّا  
وَكُلُّ أَهْرَارٍ مُسْتَهْرٌ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُنَّا مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا رَفِيكُمْ

منہ مور جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے (اس کو بھی) جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملہ کو آخر کار ایک انعام پہنچ کر رہنا ہے۔

ان لوگوں کے سامنے (مجھپھلی قوموں کے) وہ حالات آپکے ہیں جن میں سرکشی سے باز

بھی نہیں جاسکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے مالک ہجہ میں اُس وقت چاند نکلا ہوا تھا تا بیخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اُس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی مالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا تھا اسے ثابت کر لیتے اور کسی مؤرخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتیں اور وہ نثار بخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا تھا ہم الایاد کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اُس رات وہاں کے ایک راجہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، توان میں اس کا ذکر آنا صرف اُس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار، اور اس کی گردش کے راستے، اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت پھونکہ پیش نہیں آئی اس لیے ندیم زمانے کے اہل نجوم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوتی۔ اُس زمانے میں رصدگاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلک میں پیش آنے والے ہر واقعہ کا نوٹس لیتیں اور اس کو ریکارڈ پر حفظ کر لیتیں۔

**۳۵** اصل الفاظ میں سَحْرٌ مُسْتَهْرٌ اس کے کئی مطاب بوسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاذ اللہ، شب دروز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا رکھا ہے، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پاکا جادو ہے، بڑی مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح اور جادو گز کئے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دریہ پا انہیں رہنے والا نہیں ہے۔

**۳۶** یعنی جو فیصلہ انہوں نے تیامت کو نہ مانتے کا کر رکھا ہے، اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ اُسی پر جھے رہے۔ تیامت کو مان لینا چہ نکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا اس لیے صریح مشاہدے کے بعد بھی یہ اُسے تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔

**۳۷** مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ بلا نایت نہیں چل سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں، اور تم ہٹ دھرنی کے ساتھا پسے باطل پر جھے رہو، اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہ ہو۔ تمام معاملات آضر کار ایک انعام کو پہنچ کر رہتے ہیں، اسی طرح تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کشمکش کا بھی لا اخا ایک انعام ہے جس پر یہ پہنچ کر رہے گی۔ ایک وقت لازماً ایسا آنے بجہ علی الاعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق

وَوَدَّ جَرَّ حِكْمَةً بَالِغَةً فَمَا نَفَعَ النُّذْرُ فَتَوَلَّ  
عَنْهُمْ يُوَهِّرِ يَدَهُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ خَضَعًا أَبْصَارُهُمْ  
يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانُهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ  
مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفَّارُونَ هَذَا يُوَهِّرُ عَسِيرٌ

رکھنے کے لیے کافی سامان عترت ہے اور ایسی حکمت جو فضیحت کے مقصد کو بد رجھاتم پورا کرتی ہے۔ مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتیں۔ پس اسے نبی ان سے سُخ پھیر لو۔ جس روز پکارتے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سمجھی ہوئی نکاہوں کے شاخہ پر اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کوہی زیادہ بچھری ہوئی ڈال دیاں ہیں۔ پکارتے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکریں (جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے) اس وقت کہیں گے کہ یہ دن توڑا کھٹھن ہے۔

پر تھا اور تم سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح حق پرست اپنی حق پرستی کا، اور باطل پرست اپنی باطل پرستی کا نتیجہ بھی ایک دن ضرور دیکھ کر دیں گے۔

۵۔ بالفاظ دیگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقہ سے سمجھایا جا چکا ہے، اور اس اسی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتا دیا گیا ہے کہ انکا ر آ خرت کے نتائج کیا ہیں اور رسولوں کی بات نہ مانتے کا کیا عبر تناک انعام دوسرا قدمیں دیکھو چکی ہیں، بچھر بھی یہ اپنی بہت دصری سے باز نہیں آتے، تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قیامت واقعی برپا ہو گئی جس سے قبل از وقت خبردار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کا مشورہ انہیں دیا جا رہا تھا۔

۶۔ دوسرا مطلب انجان چیز بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی چیز جو کبھی اُن کے سامنے گمان میں بھی نہ تھی ہوں گا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ یہ کچھ بھی کبھی پیش آسکتا ہے۔  
۷۔ اصل الفاظ بیں خشعاً ابصراً دھر، یعنی اُن کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس کے کوئی مطلب  
ہو سکتے ہیں۔ ایکت یہ کہ اُن پر خوف زدگی طاری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ذلت اور ندامت اُن سے جملک رہی ہوگی  
کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی دوسرا زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے۔



کَذَبْتُ قَبْلَهُمْ فَوْرُجْ فَكَذَبْدُ بُوْ اَعْبُدْ نَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ  
 وَأَزْدِجْرَ ۖ ۗ فَدَعَ اَرْبَهَ آَنِيْ مَغْلُوبٌ فَانْتَصَرَ ۖ ۗ فَفَتَحْتَهَا  
 اَبُوكَابَ السَّمَاءِ يَمَاءِ مُنْهَبِيْ ۖ ۗ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عَبْوَنَگَ  
 فَالْتَّقَى الْمَاءُ عَلَى آَمْرِ قَدْ قَدْ رَجَ ۖ ۗ وَحَمَلْتَهُ عَلَى دَاتِ  
 الْوَاجِهِ وَدُسِيرَ ۖ ۗ بَجْرُیْ رَبَاعِيْنَ جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفَرَ ۖ ۗ

ان سے پہلے فوج کی قوم جھلکا چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ  
 یہ دیوانہ ہے، اور وہ بُری طرح بھڑکا گیا۔ آخر کار اُس نے اپنے رب کو پکارا کہ "میں مغلوب ہو چکا،  
 اب قرآن سے انتقام لے۔" تب ہم نے موسلاطہ بارش سے آسمان کے دروازے کھول  
 دیے اور زمین کو بچاڑ کر سختوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اُس کام کو پورا کرنے  
 کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور فوج کو ہم نے ایک سختوں اور کیلوں گلے والی پرسوار کر دیا جو  
 ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اُس شخص کی خاطر جس کی نافرمانی کی گئی تھی۔

جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے ہیں، جس میں اب مجرم کی جیبیت سے میں اپنے خدا کے سامنے  
 پیش ہونا ہے۔ سیکھ سے یہ کہ وہ مجرماً ہوئے اُس ہر لाक منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے سامنے ہو گا، اُس سے  
 نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہو گا۔

۷ تبروں سے مراد دھی قبر نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہو۔ بلکہ جس،  
 جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا، یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی، وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک  
 آواز پر اٹھ کھڑا ہو گا۔

۸ یعنی اس خبر کو جھلکا چکی ہے کہ آنحضرت برپا ہونی ہے جن میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا، اُس  
 بھی کی بنوتوں کو جھلکا چکی ہے جو اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، اور بھی کی اُس تعلیم کو جھلکا چکی ہے جو یہ بتاتی  
 تھی کہ آخرت کی بازی پر اس میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو کیا عقیدہ اور کیا عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس چیز  
 سے بچنا چاہیے۔

وَلَقَدْ تَرَكُنَهَا أَيَّةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ<sup>۱۵</sup> فَكَيْفَ كَانَ عَذَابُ  
وَنَذَرٍ<sup>۱۶</sup> وَلَقَدْ بَيْتَرُنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ<sup>۱۷</sup>

اُس کی شتی کو ہم نے ایک نشافی بنائی چھپوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا ہو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کبیسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟

**۱۱۔** یعنی ان لوگوں نے محسن بنی کنفی کی اتفاقاً کی، بلکہ اٹھا سے دیوارہ تراویح دیا، اس کو دھمکیاں دیں، اس پر لعنت ملامت کی بوجھاڑ کی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر صداقت کی تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس کا جیناد دھجیر کر دیا۔

**۱۲۔** یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ بھی کو یا وہ زمین نہ لختی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔

**۱۳۔** مراد ہے وہ کشتی جو طوفان کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق حضرت نوح نے بنائی تھی۔

**۱۴۔** اصل الفاظ ہیں جَزَاءُ تَمَنَّى كَانَ كُفُرًا یعنی یہ سب کچھ اُس شخص کی خاطر بدله لیجنے کے لیے کیا جیا جس کا کفر کیا تھا اگر انکار کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ "جس کی بات مانتھے سے انکار کیا گیا تھا" اور اگر اسے کفر ان فتح کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ "جس کا وجد ہوا یک فتح تھا مگر اُس کی ناقدری کی گئی تھی"۔

**۱۵۔** یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس عقوبت کو ایک نشان عترت بنائی چھپوڑ دیا۔ لیکن ہمارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح معنی یہ ہیں کہ اُس کشتی کو نشان عترت بنایا گیا۔ ایک بلندہ بالا پہاڑ پر اُس کا موجود ہونا سینکڑوں بڑاں لہ برس تک لوگوں کو خدا کے غضب سے خبردار کرتا رہا اور انہیں یاد دلاتا رہا کہ اس سر زمین پر خلاکی نافرمانی کرنے والوں کی کسی شامست آئی تھی اور ایمان لانے والوں کو کس طرح اُس سے بچایا گیا تھا۔ امام بن حاری، ابن ابی حاتم، عبد الزراق اور ابن جریر نے تئادہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ مسلمانوں کی فتح عراق والجزیرہ کے زمانے میں یہ کشتی جو ہدی پر (اور ایک روایت کے مطابق ہا قرزوی نامی بیتنی کے قریب) موجود تھی اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا موجودہ زمانے میں بھی ہوا تی جہازوں سے پہر واڑ کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس علاقے کی ایک پھوٹی پر ایک کشتی نما چیز رپی دیکھی ہے جس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سفیہ نوح ہے، اور اسی بناء پر وقتاً اس کی تلاش کیے مہمات جاتی رہی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ، ۴۵، ہود، حاشیہ ۶۴۔ جلد سوم، العنكبوت، حاشیہ ۴۵۔

**۱۶۔** بعض لوگوں نے بیسہن کا القرآن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن ایک آسان

كَذَّبُتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابُ وَنُذُرٍ<sup>۱۸</sup> إِنَّا أَرْسَلْنَا  
عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِصَرًا فِي يَوْمٍ لَحِيسٍ مُسْتَمِرٍ<sup>۱۹</sup> تَنزَعُ النَّاسَ

عاد نے جھوٹ لایا، تو دیکھ لونکہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیغمبر نبوست کے دن سخت طوفانی ہوا اُن پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی

کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ عربی زبان تک سے دافعیت کے بغیر جو شخص چاہے اس کی تغیر کر سکتا ہے اور حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر اُس کی آیات سے بھو احکام چاہے منطبق کر سکتا ہے۔ حالانکہ جس سیاق و سبان میں یہ الفاظ آئے ہیں اُس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد کا مدلع عالوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ نصیحت کا ایک ذریعہ تو ہیں وہ عبر تاک عذاب جو سرکش قوموں پر نازل ہوئے، اور دوسرا ذریعہ ہے یہ قرآن جو دلائل اور عظوظ تلقین سے تم کو سیدھا راستہ تیار ہا ہے اُس ذریعہ کے مقابلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زیادہ آسان ہے۔ پھر کبھی تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عذاب ہی دیکھنے پر اصرار کیے جاتے ہو یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے بنی کے ذریعہ سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن را ہوں پر تم لوگ جارہے ہو وہ کس تباہی کی طرف جاتی ہیں اور تمہاری خیر کس را ہے میں ہے نصیحت کا یہ طریقہ اسی لیے تو اختریار کیا گیا ہے کہ تباہی کے گردھے میں گرفتار ہوں اس سے بچا لیا جائے۔ اب اُس سے زیادہ نادان اور کوئی ہو گا جو سیدھی طرح سمجھانے سے نمانہ اور گردھے میں گرفتار ہوں اس سے بچا لیا جائے۔

**۱۶** یعنی ایک ایسے دن جس کی نبوست کئی روز تک مسلسل چاری رہی۔ سورہ حم سجدہ، آیت ۱۶ میں فی آیاتِ مُنْجَسَاتٍ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ الحاقة آیت ۷ میں فرمایا گیا ہے کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل سات رات اور آٹھ دن چاری رہا۔ مشورہ ہے کہ جس دن یہ عذاب شروع ہوا وہ بُدھ کا دن تھا۔ اسی سے لوگوں میں یہ خال پھیل گیا کہ بُدھ کا دن مخصوص ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہ کرنا چاہیے۔ بعض نہایت ضعیف احادیث بھی اس مسئلے میں نقل کی گئی ہیں جن سے اس دن کی نبوست کا عقیدہ عوام کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً ابن مزدوج یہ اور خطیب بغدادی کی یہ روایت کہ اخوار بعاء فی الشہر یوم رحمن مسخر رحیمه کا آخری بُدھ مخصوص ہے جس کی نبوست مسلسل چاری رہتی ہے۔ ابن بحوزی اسے موضوع کہتے ہیں۔ ابن رجب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ شنادی کہتے ہیں کہ چلنے طریقوں سے یہ منقول ہوئی ہے وہ سب وابھی ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یوم الاربعاء یوم رحمن مسخر بُدھ کا دن پیغمبر نبوست کا دن ہے۔ بعض اور روایات میں یہ باتیں بھی مردی ہیں کہ بُدھ کو سفر نہ کیا جائے، لیں دین نہ کیا جائے، ناخن نہ کٹوائے جائیں، مریض کی عیادت نہ کی جائے، اور بہ کہ چڈام اور برص اسی روز شروع ہوتے ہیں۔ مگر یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے

كَانَهُمْ أَعْجَازٌ نَّخِيلٌ قَنْقَعٌ<sup>۲۱</sup> فَلَيْفَ كَانَ عَذَابٌ وَنُذُرٌ<sup>۲۱</sup>  
 وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ<sup>۲۲</sup> كَذَبَتْ  
 نَّمُودْ بِالنُّذُرِ<sup>۲۳</sup> فَقَالُوا أَبْشِرْ أَصْنَا دَاحِدًا تَشِيعَةً  
 إِنَّا إِذَا لَقَنْ ضَلِيلٌ وَسُعِيرٌ<sup>۲۴</sup> أَلْقَى الْذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تتنے ہوں پس ویکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی  
 تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا  
 ہے کوئی نصیحت قبول کرتے والا ؟

ثُمود نے تنبیہات کو جھٹلا یا اور کہنے لگے "ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم  
 اُس کے پیچھے چلیں؟ اس کا ایسا عہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور  
 ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بیسی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نمازی کیا گیا؟

کی بیانیں رکھی جا سکتی۔ حققت مُناوی کہتے ہیں: توق الا ربِّ عَلِ جَهَنَّمَ الطِّيرَةَ وَنَطْنَ الْعَقَادَ الْمُنْجَمِينَ حِرَامَ  
 شَدِيدَ التَّعْرِيمَ، اذَا لَا يَأْمُرُ كَلَاهَا بِاللهِ تَعَالَى، لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ بِذَاتِهَا، "بدفالی کے خیال سے بُندھ کے  
 دن کو منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجومیوں کے سے اختقادات اس باب میں رکھنا حرام، سخت حرام ہے، کیونکہ سارے دن  
 الشکے میں، کوئی دن بذاتِ خود نہ فتح پہنچانے والا ہے نہ نقصان۔ علامہ اوسی کہتے ہیں "سارے دن یکساں ہیں،  
 بُندھ کی کوئی تخصیص نہیں۔ رات دن میں کوئی گھری ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی دوسرے کے لیے بُردھی  
 ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موافق اور کسی کے لیے ناموافق حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔"

کلہ بالفاظ دیگر، حضرت صالح کی پیروی سے ان کا انکارتین وجوہ سے تھا۔ ایک یہ کہ وہ بشر ہیں، انسانیت  
 سے بالاتر نہیں ہیں کہ ہم ان کی بڑائی مان لیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہماری اپنی ہی قوم کے ایک فرد ہیں۔ ہم پر ان کی فضیلت  
 کی کوئی وجہ نہیں۔ تیسرا یہ کہ اکیلے ہیں، ہمارے عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی بڑے سردار نہیں ہیں جس کے  
 ساتھ کوئی بڑا جتنا ہو، لاڈ شکر ہو، خدم و خشم ہوں، اور اس بنابرہ ہم ان کی بڑائی تسلیم کر لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بُنی یا تو  
 کوئی فرق البشرستی ہو، یا اگر وہ انسان ہی ہو تو ہمارے اپنے ملک اور قوم میں پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ کبیں اور پر سے اُتر  
 کر آئے یا باہر سے بھیجا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اُسے کوئی رئیس ہونا چاہیے جس کی غیر معمولی شان و شوکت

بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَتَيْشُ<sup>۲۵</sup> سَيَعْلَمُونَ عَدَّاً مِنَ الْكَذَابِ الْأَشْرِقِ  
 إِنَّا هُنَّ سُلُوا النَّافِقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقَبُهُمْ وَاصْطَبِرْ<sup>۲۶</sup>  
 وَنَسْتَعْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرَابٍ حَتَّىْ<sup>۲۷</sup>  
 فَنَادَاهُمْ صَاحِرٌ هُمْ فَتَعَاذُلُ فَعَفَرَ<sup>۲۸</sup> فَيُكَفَّ كَانَ عَذَابُ

نہیں، بلکہ یہ پرے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ (هم نے اپنے پیغمبر سے کہا) ”کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنائیں کیجئے رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جنادے کہ پرانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہو گا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پرانی پڑائے گا۔“ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار دالا۔ پھر دیکھ دو کہ کیا تھا میرا عذاب کی وجہ سے یہ ماں لیا جائے کہ سینماٹی کے لیے خدا کی نظر ان شباب اس پر پڑی ہے۔ یہی وہ جمالت تھی جس میں کفار کے مبتلا تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مانندے سے ان کا انکار بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ بشر ہیں، عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں پھلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے اور آج یہ دعویٰ کہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے بنی بنا یا ہے۔

۱۸ اصل میں لفظ آتش استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایسا خود پسند اور برخود غلط شخص جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سما گیا ہو اور اس بناء پر وہ ڈیگریں مارتا ہو۔

۱۹ یہ تشرح ہے اس ارشاد کی کہ ”ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنائیں کیجئے رہے ہیں۔“ وہ فتنہ یہ تھا کہ یہ کیا ایک اونٹنی لا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیل پانی پیے گی اور دوسرا دن تم سب لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکو گے۔ اس کی باری کے دن تم میں سے کوئی شخص کسی چشمے اور کنوئی پر برخود پانی لینے کے لیے آئے، نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے لائے۔ یہ چیز اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاڈ شکر نہیں رکھتا، نہ کوئی بڑا جنمبا اس کی پشت پر ہے۔

۲۰ ان الفاظ سے خود بخود یہ صورت حال متربع ہوتی ہے کہ وہ اونٹنی ایک مدت تک اُن کی بستیوں میں زندگانی پھری۔ اس کی باری کے دن کسی کو پانی پر آنسے کی بہت نہ ہوتی تھی۔ آخر کار اپنی قوم کے ایک من چلنے سردار کو انہوں نے پکارا کہ تو بڑا جہی اور بیباک آدمی ہے، ہات پات پر آستینیں جڑھا کر مارنے کے لیے تیار

وَنُذِرٌۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً فَأَحْدَثَهُ فَكَانُوا كَهْشِيشُونَ  
الْمُحْتَضِرِۚ ۲۱ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُرِّفَهُ مِنْ قَدَّارٍ  
كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطٌ بِالنُّذْرِۚ ۲۲ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاكِصًا إِلَّا  
الَّلَّوْطَ بِخَيْرِهِ هُمْ لِسَاجِرٍۚ ۲۳ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزُ  
مَنْ شَكَرَۚ ۲۴ وَلَقَدْ آنَذَ رَهْمَ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّذْرِۚ ۲۵

اور کسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے اُن پر بس ایک ہی دھما کا چھوڑا اور وہ باڑے والے کی  
روندی ہوئی باڑھ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ  
بنادیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے

لُوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھرا کرنے والی ہواں پر ٹھیج دی۔ صرف  
لُوط کے گھر والے اُس سے محفوظ رہے۔ اُن کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پیچھے پہنچا کر  
نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لُوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو  
ہماری پکڑ سے خود اپنے ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔

ہو جاتا ہے، ذرا ہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کر دکھا۔ اُن کے بڑھاوے چڑھاوے دینے پر اُس نے یہ ہم  
سر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے سخت مرعوب تھے،  
ان کو یہ احساس تھا کہ اس کی پشت پر کوئی غیر محمولی طاقت ہے، اس پر ہاتھہ ڈالتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، اور اسی  
بنابر محق ایک اونٹنی کو مار ڈالنا، ایسی حالت میں بھی جبکہ اُس کے پیش کرنے والے پیغمبر کے پاس کوئی فوج نہ تھی جس  
کا انہیں ڈر جوتا، اُن کے لیے ایک بڑی ہم سر کرنے کا ہم منی تھا۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد  
دوم، الاعراف حاشیہ ۵۸۔ جلد سوم، الشراء، حاشیہ ۱۰۵-۱۰۶۔

۱۳۰ جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے لکڑیوں اور جھاڑیوں کی  
ایک باڑھ بنا دیتے ہیں۔ اس باڑھ کی جھاڑیاں رفتہ رفتہ سوکھ کر جھپٹ جاتی ہیں اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال بوکر  
اُن کا بڑا دہ بن جاتا ہے۔ قوم خود کی کچلی ہوئی بو سیدہ لاشوں کو اسی بڑادے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

وَلَقَدْ رَأَوْدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَّنَا آعِذْنَاهُمْ فَذَوْقُوا<sup>۳۶</sup>  
عَذَابًا وَنُذُرًا<sup>۳۷</sup> وَلَقَدْ صَبَّحُهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ<sup>۳۸</sup>  
فَذَوْقُوا عَذَابًا وَنُذُرًا<sup>۳۹</sup> وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ  
فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ<sup>۴۰</sup> وَلَقَدْ جَاءَ أَلَّا فِرْعَوْنَ النُّذُرُ<sup>۴۱</sup>  
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخْذُنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍ<sup>۴۲</sup>

پھر انہوں نے اُسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے اُن کی آنکھیں منڈیوں کے مکھواپ میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزا صبح سوریہ ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آیا۔ مکھواپ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرائیہ بنادیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والائے اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کری ترددست قدرت والا پکرتا ہے۔

۳۶۔ اس قصہ کی تفصیلات سورہ ہود رأیات ۷۷ تا ۸۳ اور سورہ حجج رأیات (۱۰ تا ۱۴) میں گزر چکی ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا نیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت روکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہманوں کو بدل کاری کے یہے ان کے حوالہ کر دیں۔ حضرت لوط نے ان کی بے انتہا منت سماجت کی کہ وہ اس ذبیل حرکت سے باز رہیں مگر وہ نہ مانے اور گھر میں لگھیں کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی ساس آخری مرحلے پر بیکا یک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھروالے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک سوناک عذاب نازل ہو گیا۔ باقی میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ”تب وہ اُس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور زردیک آئے تاکہ کو اڑ لٹڑ دالیں۔ لیکن ان مددوں (یعنی فرشتوں) نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں لکھنگ بیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مددوں کو جو گھر

أَكْفَارٌ كُلُّهُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُهُمْ أَمْ لَكُمْ بِرَاءَةٌ فِي النُّبُرِ<sup>۳۳</sup>  
 أَمْ يَقُولُونَ لَنَحْنُ جَهِنَّمُ مُنْتَصِرٌ<sup>۳۴</sup> سَيِّهَنَّ مَرَاجِعُهُمْ وَ  
 يُؤْلُونَ الدُّبُرَ<sup>۳۵</sup> بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
 أَدْهَى وَأَهَمُ<sup>۳۶</sup> إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَعِيرٌ<sup>۳۷</sup> يَوْمَ  
 يُسْجَنُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا هَمَشَ سَقَرَ<sup>۳۸</sup>

کیا تمہارے کفار کچھ اُن لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جھٹا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ عنقریب یہ جھٹا شکست کھا جائے گا اور پہب پیچھے پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نشانے کے لیے اصل وعدے کا وقت توفیقات ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ درحقیقت غلط فہمی میں مستلا ہیں اور ان کی عقول ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے اُس روز ان سے کھا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی پیٹ کا مزا۔

کے دروازے پر نتے کیا چھوٹے کیا بڑے، اندر حاکر دیا، سودہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ (پیدائش، ۱۹:۹-۱۱)۔

۳۳۔ خطاب ہے قریش کے لوگوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں آخر کیا خوبی ہے، کون سے عمل تمہارے لئے ہوئے ہیں کہ جس کفر اور تکذیب اور سیاست دھرمی کی روشن پر دوسرا قدموں کو سزا دی جا چکی ہے وہی روشن تم اخیار کرو تو تمہیں سزا نہ دی جائے؟

۳۴۔ یہ منزع پیشگوئی ہے جو بحث سے پانچ سال پہلے کردی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت، جس کی طاقت کا انبیاء بڑا عزم تھا، عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ اُس وقت کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہو گا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر جہش میں پناہ گزیں ہو چکا تھا، اور باقی ماندہ اہل ایمانی شعبہ ابی طالب میں محصور رہے جنہیں قریش کے مقاطعہ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ وَمَا أَمْرَنَا لَأَنَا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٌ  
بِالْبَصَرِ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا أَشْيَا عَكْمَ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ ۝  
وَكُلَّ شَيْءٍ فَعْلَوْهُ فِي الرُّبُرِ ۝ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطْرٌ ۝

ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور یہ پہنچ پکارتے وہ عمل میں آ جاتا تھا۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر جکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب ذفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔

اور محاصرہ نے بھوکوں مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ بھوکتا تھا کہ سات ہی برس کے اندر نقشہ بدلتے ہے اور معاشرہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس کے شاگرد عکزیہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے، جب سورۃ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں جبراں تھا کہ اخڑیہ کو نسی جمیعت ہے جو شکست کھائے گی؟ مگر جب جنگ بدیں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اُس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پسند ہوئے آگے کی طرف چھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ سَيِّدُ هَمَّ الْجَنَّمَ وَنَوْلُونَ الدَّجَّوْمَ، تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ کتنی وہ بزمیت جس کی خبر دی گئی تھی راہیں جسے یہ ابن ابی حاتم۔

۲۵ یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی اُنہیں پیدا کر دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر رہے جس کے مطابق وہ ایک منفرد وقت پر بنتی ہے، ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، ایک خاص حد تک نشوونما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے، اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عالمگیر ضابطہ کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اس کے خاتم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے دُوسرے ایک گھنٹی پہلے یہ ختم ہوگی، اُنہوں کے ایک گھنٹی بعد یہ باقی رہے گی۔ یہ نہ از لی وابدی ہے کہ بیشتر سے ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ اادرنہ کسی پیچے کا کھلوٹا ہے کہ جب تم کو اسی وقت وہ اسے توڑ پھوڑ کر دکھادے۔

۲۶ یعنی تیامست برپا کرنے کے لیے جیسی کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہوگی اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہوگی۔ ہماری طرف سے یہ ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے اُس کے صادر ہوتے ہی پہنچ پکا دہ برپا ہو جائے گی۔



إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّ نَهَرٍ ۝ فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ  
صَلِيلٍ كَمُقْتَدِيرٍ ۝

نافرانی سے پہ بیز کرنے والے یقیناً باخون اور نہروں میں ہوں گے، پھری عزت کی جگہ،  
بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ۷

۳۷۰ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی خدائے حکیم و عادل کی خدائی نہیں بلکہ کسی اندر حصے راجہ کی چوپٹ نگری  
ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پُرس کرنے والا نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں کھو سکتے  
کیا یہ انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اسی روشن پر چلنے والی قومیں پے در پے تباہ کی جاتی رہی ہیں۔

۳۷۱ یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں بھی نہ ہیں کہ ان کا بیاد صراحتیں غائب ہو گیا ہے۔ نہیں، ہر شخص، ہر گروہ  
اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور اپنے وقت پر وہ سامنے آجائے گا۔

